



سوال

(319) کیا ہاروت وماروت فرشتے تھے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

زید کہتا ہے کہ ہاروت وماروت فرشتے تھے۔ بحر کہتا ہے نہیں وہ انسان تھے زید دلیل لاتا ہے کہ قرآن مجید میں لفظ ملکین مذکور ہے۔ بحر کہتا ہے کہ ایک قرأت لاکے زیر کی ساتھ لفظ بھی ہے اب عرض یہ کہ قرأت لفظ ملکین کی صحیح مانی جائے یا ملکین کی؟ دلیل معقول سے بذریعہ اخبار فیصلہ صادر فرمایا جائے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

قرأت قرآنی جو قرآن مجید میں ہے وہی مقدم ہے جو متواتر ہاروت وماروت میری تحقیق میں فرشتے نہ تھے ما انزل میں مانا فیہ ہے واللہ اعلم

(اہل حدیث امرتسر ۲۵/جمادی الاول ۱۳۲۷ھ)

فتاویٰ علمائے حدیث

جلد 10 ص 107

محدث فتویٰ